



## کھاؤ، صدقہ کرو اور پینو، لیکن اسراف اور تکبر سے بچو

عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”کھاؤ، صدقہ کرو اور پینو، لیکن اسراف اور تکبر سے بچو“

[حسن] [اسد ابن ماجہ] نے روایت کیا ہے - امام بخاری نے اسے صیغہ جزم کے ساتھ تعلقاً روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے

یہ حدیث کھانا، پینا اور لباس میں اسراف کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور بغیر دکھاؤ اور شہرت کے صدقہ کرنے کی تلقین کرتی ہے اسراف کا حقیقی معنی ہے: ہر فعل و قول میں حد سے تجاوز کرنا تاہم خرچ کرنے کے معاملہ میں حد سے گزرنے میں اسراف کے لفظ کا استعمال زیادہ مشہور ہے یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے: **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** ”کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو“ اس میں بڑائی اور تکبر کی حرمت کا بھی بیان ہے نیز اس میں انسان کے اپنے نفس کے تئیں بہتر تدبیر اختیار کرنے کے فضائل اور دنیا و آخرت کے لحاظ سے روحانی اور جسمانی مصالح کا بیان ہے کسی بھی شے میں اسراف جسم اور معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور زیاں کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی روح کو ضرر پہنچتا ہے؛ کیوں کہ یہ عموماً جسم کے تابع ہوتی ہے تکبر سے بھی روح کو ضرر لاحق ہوتا ہے، کیوں کہ اس کی وجہ سے اس میں خود پسندی آتی ہے اور آخرت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے کیونکہ یہ گناہ کا سبب ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ضرر رساں ہے، بایں طور کہ اس کی وجہ سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تعلقاً روایت کی ہے کہ: ”جو چاہو، کھاؤ اور جو چاہو، پیو، جب تک کہ دو باتیں تم میں نہ آئیں: اسراف اور تکبر“

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5363>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

